

66 اردو سے انگلش فقرات



اگر بتی جلا دو۔

Agar batti jala do

Lit incense stick.

اپنی عمر کا تو لحاظ کرو

Apni umr ka toh lehaz karo

Have regard for your age.

خالی شکر یہ سے کام نہیں چلے گا

Khali shukria sy kaam nhi chaly ga

Only thanks would not be
enough.

وہ مُخلص نہیں تھا

Wohh mukhlis nahi tha

He was not faithful.

ساا بُودانه بنا دو۔

Saabudana bna do

Make sago/tapioca for me.

وہ پر سوں آئی تھی۔

Wohh parson i thi

She came day before yesterday.

عادت ڈالو

Aadat dalo

Get in to the habit.

مجھے کچھ پوچھنا تھا

Mujhay kuch poochna tha

I had to ask something.

وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی

Wohh khany parr toot paree

She wolfed down the meal.

وہ بڑا ڈھیٹ ہے

Wohh braa dheet hy

He is so stubborn.

واہ، کیا خوشبو ہے

Waah, kia khushbu hy

Wow, What a fragrance!

نظر نہ لگے

Nazarr na lagay

Touch Wood!

vocabineer.com

vocabineer.com

بھروسہ رکھیے

Bharosa rakhiye

(Have faith) / (Rest assured)

بقایا دے دو

Bqaya dey do

Give me the change.

مزاق کے علاوہ

Mzaaq k ilawa

Jokes apart.

vocabineer.com

vocabineer.com

بات کاٹنے کے لیے معذرت

Baat kaatny kliye maazrat

Sorry to interrupt.

تھوڑا اونچا بولو

Thora ooncha bolo

Speak up.

vocabineer.com

vocabineer.com

مجھے رضائی چاہیے

Mujhy rzai chahiye

I need a quilt.

vocabineer.com

vocabineer.com

بال ٹھیک طرح سے بناؤ

Baal thik trah sy bnao

Part your hair properly.

ایک کام کر دو بھائی

Aek kaam kardo bhai

Brother do me a favor.

اُتر و گاڑی سے

Utro gaari sy

Get off the car.

میں پہنچنے والا ہوں

Mein pohnchny wala hun

I am about to arrive.

جو بچے وہ فرج میں رکھ دو

Jo bchay wohh fridge mein rakh do

Put the rest into the fridge.

وہ صرف ٹنگے مارتا ہے۔

Wohh sirf tukay marta hy

He just shoots arrows in the
dark.

بہت ستاتے ہو مجھے

Bohat staty ho mujhy

You torment so much.

چاند کو ٹکڑا ہو تم

Chaand ka tukra ho tum

You are a piece of moon.

میری ضرورت بن گئے ہو تم

Meri zrurat ban gye ho tum

You have become my necessity.

تمہاری قسم

Tumhari qasam

I swear in your name.

گلاس پکڑانا

Glass pakrana

Pass me the glass.

پچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھو

Pichy murr kar na dekho

Never Look back.

برتن ڈھکا ہوا نہیں ہے

Bartan Dhaka hua nahi hy

Container is uncovered.

جمائی لیتے ہوئے منہ پے ہاتھ رکھو

Jmai lety huwy munh py hath rakh rkho

Cover your mouth while
yawning.

میری آنکھ لگ گئی

Meri aankh lag gyee

I fell asleep.

vocabineer.com

vocabineer.com

تین بار کُلی کرو

Teen baar kuli karo

Gurgle three times.

جاؤ معاف کیا

Jaao muaf kia

Go, You are forgiven.

نظر لگی ہے تمہیں

Nazar lagi hy tumhen

You have been afflicted by the
evil eye.

تم نے بچے کو خراب کر دیا ہے

Tum ny bchay ko khrab krdia hy

You have spoiled/perverted the
child.

اور لیجیے نا

Orr lijye na

Have some more please

منع کیا تھا نا

Mana kia tha na

Didn't I forbid you?

ایک انڈا وہ بھی گندا

Aek anda wohh bhi ganda

One egg and that addled.

سُدھر جاو

Sudhar jao

Mend your ways.

میں تم کو اپنی بہن سمجھتا ہوں

Mein tum ko apni behan smjhta hun

I consider you as my sister.

بات مان لو میری

Baat man lo meri

Take my word.

vocabineer.com

vocabineer.com

ٹھل کر بات کرو

Khul kar baat karo

Speak bluntly.

تم عزت کے لائق ہی نہیں۔

Tum izzat k lyeq he nhi

You don't deserve to be
respected.

موسم کیسا ہے؟

Mosam kesa hy?

How is the weather?

بیٹری ختم ہو رہی ہے۔

Battery khatm ho rhi hy

The battery is about to run out.

نوبتے میں بیس منٹ ہیں۔

9 bajny mein 20 minute hein

It is twenty to nine.

جناب کیا وقت ہوا ہے؟

Jnaab kia waqt hua hy?

What is the time please?

فکر نہ کیجئے۔

Fikr na kijiye

Do not worry.

vocabineer.com

vocabineer.com

آپ دیر سے کیوں آئے؟

Aap derr sy kiun aye?

Why have you came late?

یہ تو جان جو کھوں کا کام ہے۔

Yeh toh jaan jokhon ka kaam hy

It is an uphill task.

جناب کی تعریف؟

Jnaab ki taareef

May I know your name?

مجھے خوشی ہوئی۔

Mujhy khushi huee

I'm delighted.

vocabineer.com

vocabineer.com

وہ میرا ہم نام ہے۔

Wohh mera hum naam hy

He is my namesake.

شرٹ سیدھی پہنو

Shirt seedhi pehno

Turn the shirt right side up.

پریشانی ہو رہی ہے؟

Preshani ho rhi hy?

Having trouble?

ہم پانچ بہنیں بھائی ہیں۔

Hum 5 behan bhai hen.

We are five siblings.

اپنا اپنا غیر غیر

Apna apna gher gher

Blood is thicker than water.

اُس کی ہٹ دھرمی کا اندازہ لگائیں آپ

Uski hatdharmi ka andaza lgyen aap

Just imagine his impudence.

تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی

Taali ek hath sy nahi bajti

It takes two to make a quarrel.

رائی کا پہاڑ مت بناؤ

Raai ka pahar mat bnao

Don't make a mountain of a
mole-hill.

جہنم میں گیا تمہارا پیسہ

Jahanam mein gya tumhara pesa

The hell with your money.

دیر سے آنا نہ آنے سے بہتر ہے

Derr sy ana na aany sy behtr hy.

Better late than never.

اُس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے

Usny kaaly kapry pehny huwy thy.

He was clothed in black.

یہ بے شرمی کی انتہا ہے

Yeh besharmi ki intaha hy.

This is the height of
shamelessness.



Like



Comment



Subscribe

